


# COVID-19 سے لڑائی کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں

دیکھ بھال فراہم کریں



سراغ لگائیں



جانچ کروائیں



دوسروں کے تحفظ  
کے لیے حفاظت سے  
علیحدہ ہو جائیں اور  
ہوٹل یا گھر پر اپنا  
خیال رکھیں۔

ہمارے رابطہ کے  
سراغ لگانے والوں  
کی کال کا جواب دیں  
تاکہ اپنی کمیونٹی میں  
COVID-19 کے  
پھیلاؤ کے تدارک  
میں ہماری مدد کر  
سکیں۔

اپنی کیفیت  
جائیں۔ مفت میں  
COVID-19  
اور انٹی باڈیز  
کے ٹیسٹس  
کروائیں۔

**NYC**  
**HEALTH+**  
**HOSPITALS**

**Test & Trace**  
**Corps**

NYC Test & Trace Corps نے آپ کی ذاتی اور صحت کی معلومات کی  
رازداری اور تحفظ کی حفاظت کا تہیہ کر رکھا ہے۔ ہم جو بھی معلومات حاصل  
کرتے ہیں وہ نیویارک شہر کے ضابطہ صحت کے تحت صیغہ راز میں محفوظ رہتی  
ہیں۔ NYC Test & Trace Corps کسی کے بھی ایمیگریشن سٹیٹس کے بارے  
میں نہیں پوچھیں گے۔

# خود اپنے تحفظ کے لیے اپنا خیال رکھیں، نیز اپنے عزیز و اقربا کو COVID-19 سے بچائیں

## ہوٹل کے ایک مفت اور نجی کمرے میں حفاظت سے علیحدہ ہو جائیں۔

اگر آپ کو COVID-19 کی تشخیص ہوئی ہے یا کسی شخص سے رابطہ میں تھے جس کا نتیجہ مثبت ہے، تو اپنے عزیز و اقربا کو وائرس سے بچانے اور محفوظ رکھنے کے لیے، ان سے علیحدہ رہنے کی مدت کے دوران، آپ، اپنے لیے بلا خرچ، ہوٹل کے کمرے میں قیام کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں۔

ٹیک کنیر ہوٹل (Take Care Hotels) محفوظ، آرام دہ اور پر آسائش ہیں۔ تمام خدمات مفت ہیں۔ بچوں کی پذیرائی ہوتی ہے۔

اگر آپ علیحدگی کے لیے ٹیک کنیر ہوٹل روم میں قیام کا انتخاب کرتے ہیں اس سے آپ کی دوسری سہولیات (سرکاری خدمات) کے حصول میں کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ٹیک کنیر ہوٹل آپ کی دائمی سکونت (گرین کارڈ) کے لیے درخواست کرنے کی اہلیت کو متاثر نہیں کرے گا۔ مزید، COVID-19 کے حوالے سے فراہم کردہ طبی دیکھ بھال یا حفاظتی خدمات کو پبلک چارج کے قانون کے تحت تصور نہیں کیا جائے گا۔

### ٹیک کنیر ہوٹل میں مندرجہ ذیل خدمات مفت فراہم کی جاتی ہیں:

- ہوٹل تک اور ہوٹل سے واپس ٹرانسپورٹ اور کوئی بھی ضروری طبی اپائنٹمنٹ
- نجی کمرے اور باتھ رومز
- موقع پر COVID-19 کی ٹیسٹنگ
- مفت وائی فائی اور کیبل ٹی وی
- رابطے میں رہنے کے لیے لامحدود مفت کالیں
- روزانہ ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور عشاءانہ\*
- مترجم کی خدمات
- دوائیوں کی سپردگی (ڈاک وغیرہ سے ملنے والی)
- ماہر ڈاکٹر اور نرسوں کے ذریعے موقع پر صحت کی دیکھ بھال کی معاونت
- ذہنی صحت کے ماہر فراہم کنندگان سے رسائی کے لیے ٹیلی سائیکیاٹری



اپنا کمرہ آج ہی بک کروائیں۔

1-212-COVID19

(1-212-268-4319) پر کال کریں یا

testandtrace.nyc پر جائیں

\*کھانے غذائی ضروریات کے مطابق تیار کئے جائیں گے

NYC  
HEALTH+  
HOSPITALS

Test & Trace  
Corps